



بینک دولت پاکستان
شعبہ ایس ایم ای، مکانات اور پائیدار مالیات
آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی

03 فروری 2025ء

ایس ایچ اینڈ ایس ایف ڈی سرکلر نمبر 01 برائے 2025ء

صدر / چیف ایگزیکٹوز،
تمام بینک

وزیراعظم کی نوجوانوں کے لیے کاروبار اور زرعی قرضہ اسکیم (پی ایم وائی بی اینڈ اے ایل ایس) سطح 4 کی شمولیت

1. براہ کرم آئی ایچ اینڈ ایس ایم ای ایف ڈی سرکلر نمبر 12 برائے 2022ء بتاریخ 12 دسمبر 2022ء اور وزیراعظم کی نوجوانوں کے لیے کاروبار اور زرعی قرضہ اسکیم کے حوالے سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ ہدایات ملاحظہ کریں۔
2. حکومت پاکستان نے اسکیم کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے، ذیل میں بیان کردہ شرائط و ضوابط کے مطابق لیپ ٹاپ اور بیرون ملک ملازمت کے خواہش مند افراد کے لیے قرضے فراہم کرنے کے غرض سے ایک نئی سطح (سطح 4) کا اضافہ کیا ہے:

نمبر شمار	تفصیلات	لیپ ٹاپ	بیرون ملک ملازمت کے خواہش مند افراد
1	مقصد	ایچ ای سی سے منظور شدہ تعلیمی اداروں کے طلبہ، فری لانسرز اور نوجوان انٹرپرائیوز کو لیپ ٹاپ کی فراہمی	بیرون ملک ملازمت کے خواہاں افراد کو تربیت، سفر اور ویزے سے متعلق اور سکونتی اخراجات کے لیے قرضوں کی فراہمی
2	اہلیت کا معیار	1. پاکستانی شہری، جس کی عمر 18 سے 30 برس کے درمیان ہو۔ 2. ایچ ای سی سے تسلیم شدہ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہا / کر رہی ہو۔	1. پاکستانی شناختی کارڈ کے حامل شہری جن کی عمر 21 تا 45 برس کے درمیان ہو۔ 2. درست ملازمتی لیٹر / پیشکش کے لیٹر کا حامل ہو، یا ادور سیز

ایمپلائمنٹ پروموٹر (او ای پی) کے توسط سے باقاعدہ بھرتی کیا گیا ہو۔ 3. ملازمتی لیٹر کی بیرون ملک پاکستانی مشن / کمیونٹی ویلفیئر اتاشی، او ای پی اور پروٹیکٹر آفس سے باقاعدہ تصدیق ہونی چاہیے۔ 4. رقم کے استعمال کا جواز پیش کرنے کے لیے بیرون ملک تربیت، ملازمتی پیشکش وغیرہ کی تفصیلات لازماً فراہم کی جائیں۔	3. جامعات اور لیپ ٹاپ قرضوں کی فراہمی میں دلچسپی رکھنے والے بینکوں کے درمیان ایک مفاتیحتی یادداشت (MOU) پر دستخط کیے جائیں گے۔ جامعہ طلبہ کو پی ایم وائی پی پورٹل کے ذریعے بینکوں سے رجوع کرنے کی ہدایت کرے گی اور بینکس جامعات کی ضمانت کے حامل طلبہ کو لیپ ٹاپ فراہم کریں گے۔ 4. لیپ ٹاپ قرضے کی قسطوں کو جامعات فیس میں شامل کریں گی اور یہ فیس صرف ان بینکوں کے ذریعے جمع کرائی جائے جنہوں نے لیپ ٹاپ کے لیے قرض فراہم کیا ہو۔ بینک اُس فیس میں سے واجب الوصول اقساط منہا کر کے بقیہ حصہ متعلقہ جامعہ کو بھیج دیں گے۔ 5. فری لانسرز اور نوجوان کاروباری افراد کو لیپ ٹاپ قرضوں کی فراہمی کے لیے، بینک درخواست دہندہ سے ایک کاروباری منصوبہ طلب کرے گا، تاکہ لیپ ٹاپ پیداواری مقاصد کے لیے استعمال ہو، نیز فری لانسز اور پیشہ ور نوجوان کی قرض واپسی کی صلاحیت کا اندازہ لگایا جاسکے۔ 6. بینک قرض واپسی کی صلاحیت کا جائزہ لینے کے لیے بنیادی اور ضمنی قرض گیروں کی مشترکہ آمدنی کو بھی زیر غور لاسکتے ہیں۔		
--	--	--	--

3	قرضے کا حجم	بنیادی کارکردگی کے حامل لیپ ٹاپس کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے (150000 روپے) یا حقیقی لاگت جو بھی کم ہو۔ متوسط کارکردگی کے حامل لیپ ٹاپس کے لیے تین لاکھ روپے (300000 روپے) یا حقیقی لاگت جو بھی کم ہو۔ جدید لیپ ٹاپس کے لیے ساڑھے چار لاکھ روپے (450000 روپے) یا حقیقی لاگت جو بھی کم ہو۔	10 لاکھ روپے تک
4	قرضے کی قسم	میعادی قرضے	میعادی قرضے
5	قرضے کی مدت	4 سال تک	5 سال تک
6	قرض تا ایکویٹی تناسب	80 تا 20 تناسب	80 تا 20 تناسب
7	بینک شرح	3+ کا بنور	3+ کا بنور
8	صارف کے لیے شرح	صفر فیصد	صفر فیصد
9	ضمانتی تقاضے	جامعات / کالجوں کا ضمانت نامہ کہ طلبہ کی اسناد لیپ ٹاپ قرض کی مکمل ادائیگی تک اُن کے پاس بطور رہن رہیں گی۔ قرض گیر کے اہل خانہ میں سے کسی کی ذاتی ضمانت۔ قرض کو مشترکہ طور پر بیرون ملک ملازمت کے خواہش مند شخص اور ملک میں رہنے والے اس کے اہل خانہ میں سے کسی رکن کے نام درج کیا جاسکتا ہے۔	قرض گیر کے اہل خانہ میں سے کسی کی ذاتی ضمانت۔ قرض کو مشترکہ طور پر بیرون ملک ملازمت کے خواہش مند شخص اور ملک میں رہنے والے اس کے اہل خانہ میں سے کسی رکن کے نام درج کیا جاسکتا ہے۔
10	خطرے کا تدارک	فراہم کردہ رقم پر فرسٹ لاس بنیاد پر 25 فیصد ضمانت	فراہم کردہ رقم پر فرسٹ لاس بنیاد پر 25 فیصد ضمانت
11	فعال ادارے	اسکیم میں شامل کمرشل اور اسلامی بینکس	اسکیم میں شامل کمرشل اور اسلامی بینکس

تمام اقسام کے قرضے ای سی آئی بی میں رپورٹ کیے جائیں گے۔ اسکیم کی دیگر شرائط و ضوابط برقرار رہیں گی۔

آپ کا مخلص

(نجم الثاقب شیر)

ایڈیشنل ڈائریکٹر